

امریکہ، داعش کی نرسریوں کا مالی



امریکہ، داعش کی نرسریوں کا مالی



امریکہ، داعش کی نرسریوں کا مالی

”شام، عراق، افغانستان اور کشمیر ایک نظر“

پچھلے کئی ماہ میں ایک افغان نیوز ایجنسی ”خام پریس“ کی نیوز دیکھ رہا ہوں جو کہ ایک دو دن بعد یہ خبر آتی ہے کہ امریکہ نے فلاجنگ فضاء حملہ میں اتنے داعشی مار دیے، افغان فوج نے فلاجنگ کاروائی میں اتنے داعشی مار دیے یہاں تک کہ

ایک دن خبر آئی کہ ایک کاروائی میں 50 داعشی مارے گئے۔

ان تمام نیوز کو مدنظر رکھتے ہوئے جب میں انداز لگاتا ہوں تو یہ تقریباً پندرہ یا سولہ سو (1500/1600) داعشی بنتے ہیں۔ کیا آپ یقین کرسکتے ہیں کیا واقعی امریکہ نے اتنے کم عرصہ میں اتنے زیادہ داعشی مار دئے؟؟ یقین نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں کوئی صداقت ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ دو دن پہلے نیویارک ٹائم نیوز نے ایک خبر لگائی، وہ خبر یہ ہے کہ " مارچ 2017 میں امریکہ نے کابل کے ایک انداز کے مطابق افغانستان میں داعش کے 700 جنگجو موجود ہیں اور اب سال کے آخر میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے 1600 جنگجوؤں کو مار دیا ہے۔"

اس خبر اور امریکہ کے متضاد دعوؤں کو دیکھ کر ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں نہ ہی داعش کے خلاف کوئی کاروائی کی ہے اور نہ ہی کسی ایک داعشی کو مارا ہے بلکہ وہ ان کو واپس مضبوط کر رہا ہے اور ان کو اسلحہ دے رہا ہے اور افغان اور انہیں خفیہ ایجنسیز کے ذریعے ان کو ٹریننگ دلوارا رہا ہے۔

اور جبکہ وہ ان کو افغانستان میں افغان طالبان کے خلاف استعمال کر رہا ہے وہ دوسری طرف وہ ان کو پاکستان میں دہشتگردی کے لئے استعمال کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے متعدد بار ٹی وی پر بیٹھ کر یہ انکشاف کیا کہ امریکہ نے صرف داعش کو افغانستان میں مضبوط کر رہا ہے بلکہ ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے اور انکی مالی مدد بھی کر رہا ہے۔

اسی طرح روس متعدد بار یہ کہتا ہے چکا ہے کہ امریکہ شام میں داعش کے جنگجوؤں کو ٹریننگ اور اسلحہ و مالی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو شامی افواج کے جنگل سے بھی چھڑا چکا ہے جسکا انکشاف کچھ عرصہ قبل شامی حکام کی جانب سے بھی کیا گیا۔ اسی طرح

نامعلوم ہیلی کاپٹرز کا داعش کے جنگجوؤں کو مختلف جگہوں پر اتارنے کے ساتھ ساتھ ان کو نامعلوم ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اسلحہ ملنے کا بھی انکشاف ہوا

سوال یہ ہے کہ افغانستان میں ایسا کون ہے جو نامعلوم ہیلی کاپٹرز کے ذریعے داعش کی مدد کرے؟ تو جواب صاف ہے کہ افغان حکومت اور امریکہ کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام باتوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور یہ تمام باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ داعش امریکہ کی پیداوار ہے مگر ہمارے کچھ جوشیلے اور دین سے محبت کرنے والے نوجوان دین کے نام پر امریکہ کے لئے استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو اس بات کا نہ اندازہ تک نہیں ہے ان لئے وانا الیہ راجعون

لہذا ہمیں خود بھی ان باتوں کو سمجھ کر لوگوں کو داعش کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کرنا ہوگا۔ داعش کو استعمال کر کے امریکہ نے بڑی حد تک عراق و شام میں کامیابی حاصل کی اور اب وہ یہ کھیل افغانستان میں کھیل رہا ہے۔ وہ داعش کو نہ صرف افغان طالبان کے خلاف استعمال کر رہا ہے بلکہ ان کو محفوظ ٹھکانے فراہم کر کے اور ان کو ٹریننگ دے کر نہ صرف پاکستان میں دہشتگردی کے لئے استعمال کر رہا ہے اور وہاں بھی ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی مل رہی ہے اور یہ سب دیکھ کر اب انہیں یا یہی کھیل داعش اور القاعدہ کی صورت میں کشمیر میں کھیلنا چاہتی ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر پلیٹ فارم پر اس کے خلاف کام کریں۔ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کریں اور کفار کی عالم اسلام کے خلاف سازشوں کو ناکام بنائیں۔

اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین